

کتاب سعادۃ

بتحشیہ

مولانا قاضی سجاد حسین رحمانہ

مکتبۃ الرشیدی

کراچی - پاکستان

کتاب سعاد

بتحشیه

قاضی سجاد حسین رحمة اللہ علیہ



کتاب کا نام : **کوشیتہ**

مؤلف : **قاضی مجاہدین**

تعداد صفحات : ۲۴

قیمت برائے قارئین : =/۱۵ روپے

سن اشاعت : ۱۴۳۱ھ/۲۰۱۰ء

ناشر : **مکتبہ البشری**

چوہدری محمد علی چیرٹیمبل ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

Z-3، اوور سیز بنگلوز، گلستان جوہر، کراچی۔ پاکستان

فون نمبر : +92-21-34541739 +92-21-37740738

فیکس نمبر : +92-21-34023113

ویب سائٹ : www.ibnabbasaisha.edu.pk

ای میل : al-bushra@cyber.net.pk

ملنے کا پتہ : مکتبہ البشری، کراچی۔ +92-321-2196170

مکتبہ الحرمین، اردو بازار، لاہور۔ +92-321-4399313

المصباح، ۱۶، اردو بازار، لاہور۔ +92-42-37124656, 37223210

بلک لینڈ، سٹی پلازہ کالج روڈ، راولپنڈی۔ +92-51-5773341, 5557926

دار الإخلاص، نزد قصبہ خوانی بازار، پشاور۔ +92-91-2567539

اور تمام مشہور کتب خانوں میں دستیاب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

مناجات بہ درگاہِ مجیب الدعوات

کریمؑ بہ بخشائے بر حالِ ما کہ ہستم اسیرِ کمندِ ہوا
نداریم غیر از توؑ فریادرسِ توتی عاصیاں را خطا بخش و بس
نگہدارؑ ما رازِ راہِ خطا خطا در گذار و صوابم نما

در ثنائے پیغمبر ﷺ

زباں تابودؑ در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر
حبیبِ ۵ خدا اشرفِ انبیا کہ عرشِ مجیدش بود مُتکا
سوارِ جہاں گیرؑ یکراں براق کہ بہ گذشت از قصرِ نیلی رواق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ کریم: اے کریم۔ بہ بخشائے: بخشش فرما۔ اسیر: قیدی۔ کمند: پھانسہ۔ ہوا: خواہشِ نفسانی۔
۲۔ تو: یعنی کریم۔ فریادرس: فریاد کو پہنچنے والا۔ عاصیاں: عاصی کی جمع، گناہ گار۔ خطا بخش: خطا کو معاف کرنے والا۔
بس: یعنی صرف تو ہی معاف کرنے والا ہے۔

۳۔ نگہدار: بچا۔ راہ: راستہ۔ در گذار: معاف کر دے۔ صواب: درست بات۔ نما: دکھا۔

۴۔ تابود: جب تک۔ دہان: منہ۔ ثنا: تعریف۔ دل پذیر: دل پسند۔

۵۔ حبیب: پیارا۔ انبیا: نبی کی جمع۔ مجید: بزرگ۔ مُتکا: تکیہ گاہ

۶۔ سوارِ جہاں گیر: عالم کو فتح کرنے والا سوار۔ یکراں: سرخ رنگ کا گھوڑا جسکی ایال اور دم سفید ہو۔ براق: وہ سواری
جس پر آنحضرت ﷺ معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ قصر: محل۔ رواق: چھجہ، چھت۔ نیلی رواق: یعنی آسمان۔

خطاب بہ نفس

چہل ۱۔ سال عمر عزیزت گذشت مزاج تو از حالِ طفلی نگشت
 ہمہ ۲۔ با ہوا و ہوس ساختی دے با مصالح نہ پرداختی
 مکن ۳۔ تکیہ بر عمر ناپائدار مباحش ایمن از بازی روزگار

در مدح کرم

دلا ہر کہ بنہادِ خوانِ کرم بشد نام دارِ جہانِ کرم
 کرم نام دارِ جہانت ۴۔ کند کرم کام گارِ امانت کند
 ورائے ۶۔ کرم در جہاں کار نیست وزیں گرم تر بیچ بازار نیست
 کرم مایہ ۷۔ شادمانی بود کرم حاصل زندگانی بود
 دلِ عالمے ۸۔ از کرم تازہ دار جہاں را ز بخشش پر آوازہ دار
 ہمہ وقت شو در کرم مستقیم ۹۔ کہ ہست آفرینندہ جاں کریم

۱۔ چہل: چالیس۔ عمر عزیز: قابلِ قدر عمر۔ حال: حالت۔ طفلی: بچپن۔

۲۔ ہمہ: تمام۔ دے: ایک سانس۔ مصالح: مصلحت کی جمع، بھلائی۔

۳۔ مکن: نہ کر۔ تکیہ: بھروسہ۔ ایمن: مطمئن۔ بازی: کھیل۔ روزگار: زمانہ۔

۴۔ مدح: تعریف۔ کرم: بخشش۔ دلا: اے دل۔ خوان: دستہ خوان۔ نام دار: مشہور۔

۵۔ جہانت: یعنی ترادور جہاں۔ کام گار: کامیاب۔

۶۔ وراء: سوا۔ کار: کام۔ گرم تر: کسی چیز کی گرم بازاری سے مراد اس کا چالو ہونا ہے۔

۷۔ مایہ: سرمایہ۔ شادمانی: خوشی۔ حاصل: خلاصہ۔

۸۔ عالم: جہاں۔ کرم: بخشش۔ آوازہ: شہرت۔

۹۔ مستقیم: ثابت قدم۔ آفرینندہ: پیدا کرنے والا۔

در صف سخاوت

سخاوت کند نیک بخت ^۱ اختیار
 کہ مرد از سخاوت شود بختیار
 بہ لطف ^۲ و سخاوت جہانگیر باش
 در اقلیم لطف و سخا میر باش
 سخاوت بود کار صاحب دلاں ^۳
 سخاوت بود پیشہ مقبلاں
 سخاوت مس ^۴ عیب را کیمیا ست
 سخاوت ہمہ دردہا را دوا ست
 مشو ^۵ تا تو اں از سخاوت بری
 کہ گوئے بہی از سخاوت بری

در مذمت بخیل

اگر چرخ ^۱ گردد بکام بخیل
 و اقبال باشد غلام بخیل
 و گر در کفش ^۲ گنج قاروں بود
 و گر تابعش ربع مسکوں بود
 نیزد ^۳ بخیل آنکہ نامش بری
 و گر روزگارش کند چاکری

۱ بخت: نصیب۔ بختیار: نصیبہ ور۔

۲ لطف: مہربانی۔ اقلیم: ملک۔ میر: سردار۔

۳ صاحب دلاں: نیک دل لوگ۔ پیشہ عادت۔ مقبلاں: نصیبہ ور لوگ۔

۴ مس: تانبا۔ کیمیا: وہ چیز جس کو ڈالنے سے تانبا سونا بن جاتا ہے۔ دردہا: درد کی جمع۔

۵ مشو: نہ ہو۔ تا تو اں: جب تک ہو سکے۔ گوئے: گیند۔ بہی: عمدگی۔

۱ یعنی اگر آسمان موافق مراد بخیل گردش نماید۔ چرخ: آسمان۔ کام: مقصد۔ ور: اگر۔ اقبال: فتح مندی۔ غلام: نوکر۔

۲ کفش: اس کی ہتھیلی۔ گنج: خزانہ۔ قاروں: مشہور مال دار آدمی تھا۔ تابع: تابع دار۔ ربع مسکوں: زمین کا وہ حصہ

جس پر دنیا آباد ہے۔ زمین کے تین حصے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں صرف ایک چوتھائی پر پوری دنیا آباد ہے۔

۳ نیزد: اس قابل نہیں ہے۔ نامش بری: تو اس کا نام بھی لے۔ روزگار: زمانہ۔ چاکری: نوکری۔

مکن التفاتے ۱۔ بمالِ بخیل
 بخیل ار ۲۔ بود زاهد بحر و بر
 بخیل ارچہ ۳۔ باشد تو نگر بمال
 سخیاں ز ۴۔ اموال بر می خورند
 مبر نام مال و منال بخیل
 بہشتی نباشد بہ حکم خبر
 بہ خواری چو مفلس خورد گوشمال
 بخیلاں غم سیم و زر می خورند

درصفتِ تواضع

دلاگر تواضع ۵۔ کنی اختیار
 تواضع زیادت کند جاہ ۶۔ را
 تواضع بود مایہ دوستی
 تواضع کند مرد را سرفراز ۷۔
 تواضع کند ہر کہ ہست آدمی
 شود خلق دنیا ترا دوست دار
 کہ از مہر پرتو بود ماہ را
 کہ عالی ۸۔ بود پایہ دوستی
 تواضع بود سرداراں را طراز
 نہ زبید ز مردم ۹۔ بہ جز مردمی

۱۔ التفات: توجہ۔ منال: آمدنی کی جگہ جائیداد وغیرہ۔

۲۔ ار: اگر۔ زاهد: پرہیزگار۔ بحر: سمندر۔ بر: خشکی۔ خبر: یعنی حدیث شریف میں ہے کہ بخیل جنت کی خوشبو تک بھی نہ سونگھ سکے گا۔

۳۔ ارچہ: اگرچہ۔ تو نگر: مال دار۔ خواری: ذلت۔ گوشمال: سزا۔

۴۔ زاز: اموال۔ مال کی جمع۔ بر: پھل۔ سیم: چاندی۔ زر: سونا۔

۵۔ تواضع: انکساری۔ خلق: مخلوق۔ دوست دار: دوستی کرنے والا۔

۶۔ جاہ: مرتبہ۔ مہر: سورج۔ پرتو: سایہ۔ ماہ: چاند، یعنی جس طرح چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے اسی طرح تواضع نے انسان کے رتبہ میں رونق پیدا ہوتی ہے۔

۷۔ عالی: یعنی دوستی بڑی چیز ہے۔

۸۔ سرفراز: سر بلند۔ سرداراں: سرور کی جمع سردار۔ طراز: نقش و نگار۔

۹۔ مردم: ایک اور بہت سے انسان۔ مردمی: انسانیت۔

تواضع کند ۱ ہوشمندِ گزین
تواضع بود حرمت ۲ افزائے تو
تواضع کلید ۳ در جنتِ ست
کسے را کہ گردن کشی ۴ در سرست
کسے را کہ عادت تواضع بود
تواضع عزیزت ۶ کند در جہاں
تواضع مدار از خلائق ۷ در بیغ
تواضع ز گردن فرازاں ۸ نکلوست

نہد شاخِ پر میوہ سر بر زمین
کند در بہشت بریں جائے تو
سرافرازی و جاہ را زینت ست
تواضع ازو یافتنِ خوش تر ست
ز جاہ و جلالش ۵ تمتع بود
گرامی شوی پیش دلہا چو جاں
کہ گردن ازاں بر کشی ہچو تیغ
گدا گر تواضع کند خوئے او ست

در مذمتِ تکبر ۹

تکبر مکن زینہار اے پسر کہ روزے ز دستش درائی بسر
تکبر ز دانا ۱۰ بود ناپسند غریب آید ایں معنی از ہوشمند

۱ تواضع کند: یعنی منتخب عقل مند تواضع کرتا ہے۔ پر میوہ: پھل دار، یعنی جو بیماری بھرم ہیں وہ جھکتے ہیں۔

۲ حرمت: عزت۔ بریں: برتر، بلند۔ جا: جگہ۔

۳ کلید: چابی۔ در: دروازہ۔ سرافرازی: سر بلندی۔ جاہ: مرتبہ۔

۴ گردن کشی: بڑائی۔ خوش تر: بہت اچھا۔

۵ جلال: بزرگی۔ تمتع: نفع اندوزی۔

۶ عزیز: باعزت۔ دل ہا: یعنی لوگوں کے دل۔ جان: جو سب کو پیاری ہے۔

۷ خلائق: خلق کی جمع مخلوق۔ در بیغ: یعنی تواضع کرنا نہ چھوڑ۔

۸ گردن فرازاں: سر بلند۔ خوئے: عادت۔

۹ مذمت: برائی۔ زینہار: ہرگز۔ زد دستش: یعنی تکبر کے ہاتھ سے۔ درائی بسر: تو سر کے بل گرے گا۔

۱۰ دانا: عقل مند۔ غریب: اجنبی۔ ایں: یعنی تکبر۔

تکبر بود عادتِ جاہلان
تکبر عزازیل^۱ را خوار کرد
تکبر نیاید ز صاحبِ دلاں
کسے را کہ خصلتِ تکبر بود
بزنندانِ لعنت گرفتار کرد
سرش پر غرور^۲ از تصور بود
تکبر بود مایہِ مدبری^۳
تکبر بود اصلِ بد گوہری
چودانی^۴ تکبر چرا مے کنی
خطا می کنی و خطا می کنی

در فضیلتِ علم

بنی آدم^۵ از علم یا بد کمال
چو شمع از پے^۶ علم باید گداخت
نہ از حشمت و جاہ و مال و منال
خرد مند^۷ باشد طلبِ گارِ علم
کہ بے علم نتواں خدا را شناخت
کسے را کہ شد در ازل^۸ بختیار
کہ گرمست پیوستہ بازارِ علم
طلب کردن علم شد بر تو فرض^۹
دگر واجب ست از پیش قطعِ ارض
برو دامنِ علم گیر استوار^{۱۰}
کہ علمت رساند مدارِ القرار

۱۔ عزازیل: شیطان۔ زندان: قید خانہ۔

۲۔ غرور: دھوکا۔ تصور: خیال۔

۳۔ مدبری: بدبختی۔ بدگوہر: بداصل۔

۴۔ چودانی: جب تو جانتا ہے۔

۵۔ بنی آدم: حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی انسان۔ حشمت (بالکسر): دبدبہ۔

۶۔ پے: پیچھے۔ باید گداخت: پگھلانا چاہیے۔ بے علم: جاہل۔

۷۔ خرد مند: عقل مند۔ گرم بازاری: قدر و قیمت ہونا۔ پیوستہ: ہمیشہ۔

۸۔ ازل: ابتدا عالم۔ بختیار: نصیبہ ور۔

۹۔ فرض: دین کے فرائض ادا کرنے کے لیے جس قدر علم درکار ہے اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ دگر: یعنی پھر علم کی طلب کے لیے سفر کرنا واجب ہے۔ پیش: یعنی طلب علم کے لیے۔ قطع ارض: زمین کو قطع کرنا یعنی سفر کرنا۔

۱۰۔ استوار: مضبوط۔ دارالقرار: ہمیشہ رہنے کا گھر یعنی جنت۔

میا موز جز ^۱ علم گر عاقلی کہ بے علم بودن بود عاقلی
ترا ^۲ علم در دین و دنیا تمام کہ کار تو از علم گیرد نظام

در امتناع ^۳ از صحبت جاہلاں

دلا گر خرد مندی و ہوشیار مکن صحبت جاہلاں اختیار
ز جاہل گریزندہ ^۴ چوں تیر باش نیامینتہ چوں شکر شیر باش
ترا اثر دہا ^۵ گر بود یار غار ازاں بہ کہ جاہل بود غم گسار
اگر خصم ^۶ جان تو عاقل بود بہ از دوست داریکہ جاہل بود
چو جاہل کسے در جہاں خوار ^۷ کہ ناداں تر از جاہلی کار نیست
ز جاہل نیاید جز ^۸ افعال بد وزو نشنود کس جز اقوال بد
سر انجام جاہل جہنم بود کہ جاہل نکو ^۹ عاقبت کم بود
سر جاہلاں بر سر دار ^{۱۰} بہ کہ جاہل بہ خواری گرفتار بہ
ز جاہل حذر ^{۱۱} کردن اولی بود کزو ننگ دنیا و عقبی بود

^۱ جز: سوائے۔ علم: یعنی علم دین۔ عاقلی: نادانی، جہالت۔

^۲ ترا: یعنی دین و دنیا کے لیے علم کافی ہے۔ نظام: انتظام۔

^۳ امتناع: باز رہنا۔ دلا: اے دل۔ خرد مند: عقل مند۔ صحبت: ساتھ۔

^۴ گریزندہ: بھاگنے والا۔ آمینتہ: ملا ہوا۔ شیر: دودھ۔

^۵ اثر دہا: سانپ کی ایک قسم ہے۔ یار غار: پکاساھی۔ غم گسار: غم خوار۔

^۶ خصم: دشمن۔ دوست دار: دوست۔ ^۷ خوار: ذلیل۔ جاہلی: بے علمی۔ کار: کام۔

^۸ جز: سوائے۔ افعال: فعل کی جمع، کام۔ اقوال: قول کی جمع، بات۔

^۹ نکو: بہتر۔ عاقبت: انجام۔ ^{۱۰} دار: سولی۔ بہ: بہتر۔ خواری: ذلت۔

^{۱۱} حذر: پرہیز۔ اولی: بہتر۔ کزو: کہ ازو۔ ننگ: ذلت۔ عقبی: آخرت

درصفت عدل

چو ایزد^۱ ترا این ہمہ کام داد
چو عدل ست پیرایہ^۲ خسروی
ترا مملکت^۳ پانڈاری کند
چو نوشیروان^۴ عدل کرد اختیار
ز تاثیر^۵ عدل ست آرام ملک
جہاں را بانصاف آباد دار
جہاں را بہ از عدل معمار^۶ نیست
ترا زین بہ^۷ آخر چہ حاصل بود
اگر خواہی از نیک بختی نشان
رعایت^۸ دربلغ از رعیت مدار

چرا بر نیاری سر انجام داد
چرا عدل را دل نداری قوی
اگر معدلت دستکاری کند
کنون نام نیک ست ازو یادگار
کہ از عدل حاصل شود کام ملک
دل اہل انصاف^۹ را شاد دار
کہ بالا تر از معدلت کار نیست
کہ نامت شہنشاہ عادل بود
در ظلم بندی بر اہل جہاں^۹
مراد دل داد خواہاں بر آر

۱ ایزد: اللہ تعالیٰ۔ کام: مقصد۔ داد: انصاف۔

۲ پیرایہ: زیب و زینت۔ خسروی: بادشاہت۔ عدل: انصاف۔

۳ مملکت: سلطنت۔ پانڈاری: مضبوطی۔ معدلت: انصاف۔ دستکاری: مدد۔

۴ نوشیروان: ایران کا مشہور بادشاہ۔ کنوں: اب تک۔ یادگار: یاد دلانے والا۔

۵ تاثیر: اثر۔

۶ اہل انصاف: منصف لوگ۔ شاد: خوش۔

۷ بہ: بہتر۔ راج: بالا: اونچا۔

۸ بہ: بہتر۔ چہ: کیا۔ عادل: انصاف کرنے والا۔

۹ اہل جہاں: جہان والے۔

۱۰ رعایت: نگہبانی۔ دربلغ: ممنوع۔ دادخواہ: فریادی۔

در مذمتِ ظلم

خرابی ز بیداد بیند جہاں
 مدہ رخصت^۱ ظلم در ہیج حال
 چو بستان خرم ز بادِ خزاں
 کسے کاتش^۲ ظلم زد در جہاں
 کہ خورشیدِ ملکیت نیابد زوال
 ستم کش^۳ گر آہے بر آرد ز دل
 بر آورد از اہل عالم نفاں
 مکن بر ضعیفان بے چارہ^۴ زور
 زند سوزِ او شعلہ در آب و گل
 بازار^۵ مظلوم مائلِ مباحش
 بیندیش آخر ز تنگی گور
 مکن مردم آزاری اے تند^۶ رائے
 ز دودِ دلِ خلقِ غافلِ مباحش
 ستم بر ضعیفانِ مسکین مکن
 کہ ناگہ رسد بر تو قہرِ خدائے
 کہ ظالم بدوزخ رود بے سخن^۷

در صفتِ قناعت

دلا گر قناعت^۹ بدست آوری
 اگر تنگ دستی^{۱۰} ز سختی منال
 در اقلیمِ راحت کنی سروری
 کہ پیش خرد مند ہیج ست مال

۱۔ مذمت: برائی۔ بیداد: ظلم۔ بستان: باغ۔ خرم: شاداب۔ باد: ہوا۔ خزاں: پت جھڑکا موسم۔

۲۔ رخصت: اجازت۔ خورشید: آفتاب۔ کاتش: کہ آتش۔ نفاں: فریاد۔

۳۔ ستم کش: مظلوم۔ سوز: جلن۔ شعلہ: چنگاری۔ آب: پانی۔ گل: مٹی۔

۴۔ چارہ: تدبیر، علاج۔ زور: ظلم و زیادتی۔ گور: قبر۔

۵۔ بازار: تکلیف۔ مباحش: نہ ہو۔ دود: دھواں۔

۶۔ تند: سخت۔ قہر: غضب۔ ستم: ظلم۔

۹۔ قناعت: تھوڑے پر صبر کرنا۔ اقلیم: ملک۔ سروری: سرداری۔

۱۰۔ اگر تنگ دستی: اگر تو تنگ دست ہے۔ منال: مت رو۔ ہیج: بے قدر

ندارد خرد مند از فقر عار^۱ کہ باشد نبی راز فقر افتخار
 غنی^۲ را زر و سیم آرایش ست و لیکن فقیر اندر آسایش ست
 غنی گر نباشی مکن اضطراب^۳ کہ سلطان نخواهد خراج از خراب
 قناعت بہر حال اولی تر^۴ ست قناعت کند ہر کہ نیک اختر ست
 ز نورِ قناعت بر افروز^۵ جاں اگر داری از نیک بختی نشان

در مذمتِ حرص

ایا^۱ بتلا گشتہ در دامِ حرص شدہ مست ولای عقل از جامِ حرص
 مکن عمر ضائع بہ تحصیل^۲ مال کہ ہم نرخ گوہر نباشد سفال
 ہر آنکس کہ در بند^۳ حرص اوفتاد دہد خرمن زندگانی بباد
 گرفتم^۴ کہ اموالِ قارون ترا ست ہمہ نعمت ربع مسکون ترا ست
 بخوابی شد آخر گرفتارِ خاک^۵ چو بے چارگان بادلِ درد ناک

۱۔ عار: ذلت۔ افتخار: فخر کرنا۔

۲۔ غنی: مال دار۔ آسایش: آرام و بے فکری، چون کہ مفلس کو مال کے ضائع ہونے کا فکر نہیں ہوتا۔

۳۔ اضطراب: پریشانی۔ سلطان: بادشاہ۔ خراج: ٹیکس۔ خراب: کوڑی۔

۴۔ اولی تر: بہتر۔ نیک اختر: جس شخص پر اچھے ستارے کا سایہ ہو، یعنی خوش نصیب۔

۵۔ افروز: روشن۔

۱۔ ایا: اے۔ دام: جال۔ حرص: لالچ۔ لایعقل: بے سمجھ۔ جام: گلاس۔

۲۔ تحصیل: حاصل کرنا۔ ہم نرخ: ایک ہی بھاؤ۔ گوہر: موتی۔ سفال: مٹی کا برتن۔

۳۔ بند: قید۔ خرمن: ڈھیر۔ دہد بباد: یعنی برباد کرتا ہے۔

۴۔ گرفتم: میں نے مانا۔ اموال: مال کی جمع۔ ربع: چوتھائی۔ مسکون: آباد۔

۵۔ گرفتارِ خاک: یعنی مگر قبر میں جائے گا۔ درد ناک: درد والا۔

چرا می گدازی^۱ ز سودائے زر
 چرا می کشتی محنت از بہر مال
 چنان دادہ دل^۲ بنقش درم
 چنان عاشق روئے زر^۳ گشتہ
 چنان^۴ گشتہ صید بہر شکار
 مبادا دل آں فرومایہ^۵ شاد
 چرا می کشتی بار محنت چو خر
 کہ خواہد شدن ناگہاں پانمال^۶
 کہ ہستی ز ذوقش ندیم ندم
 کہ شوریدہ احوال و سرگشتہ
 کہ یادت نیاید ز روز شمار
 کہ از بہر دنیا دہد دیں بباد

درصفت طاعت و عبادت

کسے را کہ اقبال^۱ باشد غلام
 نشاید سر از بندگی^۲ تافتن
 سعادت^۳ ز طاعت میسر شود
 اگر بندی^۴ از بہر طاعت میاں
 ز طاعت نہ پیچید^۵ خرد مند سر
 بود میل خاطر بطاعت مدام
 کہ دولت بطاعت تواں یافتن
 دل از نور طاعت منور شود
 کشاید در دولت جاوداں
 کہ بالائے طاعت نباشد ہنر

۱۔ می گدازی: تو پچھلتا ہے۔ خر: گدھا۔

۲۔ دل دادن: عاشق ہونا۔ درم: ایک پرانا سکہ۔ ندیم: ساتھی۔ شرمندگی۔

۳۔ زر: سونا، مال و دولت۔ شوریدہ احوال: پریشان حال۔ سرگشتہ: حیران۔

۴۔ چنان: ایسا۔ صید: شکار۔ روز شمار: قیامت۔

۵۔ اقبال: خوش نصیبی۔ غلام: نوکر۔ میل: جھکاؤ۔ خاطر: طبیعت۔ مدام: ہمیشہ۔

۶۔ بندگی: عبادت۔ تافتن: موڑنا۔ دولت: یعنی آخرت کی راحتیں۔

۷۔ سعادت: نیک بختی۔ میسر: حاصل۔ منور: روشن۔

۸۔ بندی: کسے گا تو۔ میاں: کمر۔ جاوداں: ہمیشگی۔

۹۔ نہ پیچید: نہ پھیرے گا تو۔

۱۰۔ پانمال: روندنا ہوا۔

بَاب ۱۔ عبادت وضو تازہ دار
 نماز از سر صدق بر پائے ۲۔ دار
 ز طاعت بود روشنائی ۳۔ جاں
 پرستندہ ۴۔ آفرینندہ باش
 اگر حق پرستی کنی اختیار
 سر از جیب ۱۔ پرہیز گاری بر ار
 ز تقویٰ ۲۔ چراغ رواں بر فروز
 کسے را کہ از شرع باشد شعار ۳۔

کہ فردا ز آتش شوی رستگار
 کہ حاصل کنی دولت پائدار
 کہ روشن ز خورشید باشد جہاں
 در ایوان طاعت نشیندہ باش
 در اقلیم دولت شوی شہریار ۴۔
 کہ جنت بود جائے پرہیز گار
 کہ چون نیک بختاں شوی نیک روز
 نہ ترسد ز آسیب روز شمار

در مذمت شیطان

دلا ہر کہ محکوم شیطان بود
 کسے را کہ شیطان بود پیشوا
 دلا عزم ۱۔ عصیاں مکن زینہار

شب و روز در بند عصیاں ۲۔ بود
 کجا باز گردد ۳۔ براہ خدا
 کہ رحمت کند بر تو پروردگار

۱۔ آب: پانی۔ آتش: آگ۔ رستگار: چھڑکا راپانے والا۔

۲۔ بر پائے دار: قائم کر۔ پائدار: مستقل۔

۳۔ روشنائی: نور۔ کہ: جیسے۔ خورشید: سورج۔

۴۔ پرستندہ: پوجنے والا۔ ایوان: دیوان خانہ۔ نشینندہ: بیٹھنے والا۔

۱۔ سر از جیب اچ: یعنی پرہیز گاری کو اپنا لباس بنالے۔

۲۔ تقویٰ: پرہیز گاری۔ رواں: روح۔ فروز: روشن کر۔ نیک روز: پاک اوقات۔

۳۔ شعار: علامت اور لباس۔ آسیب: تکلیف۔ روز شمار: قیامت۔

۴۔ عصیاں: نافرمانی، گناہ۔

۱۔ عزم: ارادہ۔ مکن: نہ کر۔ پروردگار: اللہ۔

۲۔ باز گردد: واپس ہو۔ راہ: راستہ۔

ز عصیاں کند ہوشمند احتراز ^۱ کہ از آب باشد شکر را گداز
 کند نیک بخت از گنہ ^۲ اجتناب کہ پنہاں شود نور مہر از سحاب
 مکن نفس امارہ ^۳ را پیروی کہ ناگہ گرفتارِ دوزخ شوی
 اگر بر نہ تابد ^۴ ز عصیاں دلت بود اسفل السافلین منزلت
 مکن خانہ زندگانی خراب بسیلاب ^۵ فعل بد و ناصواب
 اگر دور باشی ز فسق و فجور ^۶ نباشی ز گل زارِ فردوس دور

در بیان شراب محبت و عشق

بدہ ^۷ ساقیا آب آتش لباس کہ مستی کند اہل دل التماس
 مئے لعل ^۸ در ساغرِ زر نگار بود روح پرور چو لعل نگار
 خوشا ^۹ آتش شوق اربابِ عشق خوشا لذتِ درد اصحابِ عشق
 بیار ^{۱۰} آل شرابِ چو آبِ حیات کہ یابد ز بولیش دل از غم نجات

۱۔ احتراز: پرہیز کرنا۔

۲۔ گنہ: گناہ۔ اجتناب: بچنا، پرہیز کرنا۔ پنہاں: پوشیدہ۔ نور مہر: سورج کی روشنی، دھوپ۔ سحاب: ابر۔

۳۔ نفس امارہ: وہ نفس جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے۔

۴۔ بر نہ تابد: نہ پھرے۔ اسفل السافلین: دوزخ کا نچلے سے نچلا درجہ۔ منزل: ٹھکانا۔

۵۔ سیلاب: پانی کا بہاؤ۔ فعل بد: برا کام۔ ۶۔ فجور: بدکاری۔ گل زار: باغ۔ فردوس: جنت۔

۷۔ بدہ: دے۔ ساقیا: اے پلانے والے۔ آب آتش لباس: وہ پانی جو آگ کا لباس پہنے ہوئے ہے یعنی شراب۔

۸۔ مئے لعل: سرخ رنگ کی شراب۔ ساغر: شراب کا پیانا۔ زر نگار: سونے کے نقش و نگار والا۔ لعل: ہونٹ۔

۹۔ خوشا: بہت اچھی۔ شوق: عشق۔ ارباب: رب کی جمع صاحب۔

۱۰۔ بیار: لا۔ آب حیات: زندگی کا پانی۔ مشہور ہے کہ پانی کا ایک ایسا چشمہ ہے جس کا پانی پینے کے بعد موت نہیں آتی۔

بوی: خوشبو۔

خوش آں دل کہ دارد تمنائے دوست^۱ خوش آں کس کہ در بند سودائے دوست
 خوش آں دل کہ شیدا است بر روئے دوست خوش آں دل کہ شد منزلش^۲ کوئے دوست
 شراب^۳ چو لعل رواں بخش یار شراب مصفا چو روئے نگار
 خوشامے^۴ پرستی ز صاحب دلاں خوشا ذوقِ مستی ز اہل دلاں

درصفتِ وفا^۵

دلا در وفا باش ثابت قدم کہ بے سگہ رانج نباشد درم
 ز راہِ وفا گر نہ پیچی عنان^۶ شوی دوست اندر دل دشمنان
 مگرداں^۷ ز کوئے وفا روئے دل کہ در روئے جاناں نباشی نخل
 منہ^۸ پائے بیروں ز کوئے وفا کہ از دوستان می نیرزد جفا
 جدائی ز احباب کردن خطا^۹ ست بریدن ز یاراں خلافِ وفا ست
 بود بے وفائی سرشت^{۱۰} زناں میاموز کردار زشت زناں

۱۔ دوست: یعنی اللہ تعالیٰ۔ سودا: عشق۔ ۲۔ منزل: پڑاؤ۔ کوئے: کوچہ۔

۳۔ شراب: یعنی وہ شراب بہت اچھی ہے جو معشوق کے ہونٹ کی طرح سرخ ہو۔ مصفا: صاف۔ روئے نگار: معشوق کا چہرہ۔

۴۔ مئے: یعنی شرابِ معرفت۔ صاحب دلاں: وہ لوگ جن کے دل میں عشقِ خدا ہے۔

۵۔ وفا: وفاداری۔ سگہ: ٹھپہ۔ درم: یعنی جس دل میں وفانہ ہو وہ بغیر ٹھپہ کا سگہ ہے۔

۶۔ عنان: باگ۔

۷۔ مگرداں: نہ موڑ۔ روئے جاناں: محبوب کے رو بہ رو۔ نخل: شرمندہ۔

۸۔ منہ: نہ رکھ۔ می نیرزد: مناسب نہیں۔ جفا: ظلم۔

۹۔ خطا: غلطی۔ بریدن: کاٹنا۔

۱۰۔ سرشت: طبیعت، زناں: عورتیں۔ کردار: کام۔ زشت: برا۔

در فضیلت شکر

کسے را کہ باشد دل حق شناس
نشانید کہ بندد زبان سپاس
نفس^۲ جز بشکر خدا بر میار
کہ واجب بود شکر پروردگار
ترا مال و نعمت فزاید^۳ ز شکر
ترا فتح از در درآید ز شکر
اگر شکر حق تا بروز شمار
گزارى نباشد یکے از ہزار^۴
ولے^۵ گفتن شکر اولی ترست
کہ اسلام را شکر او زیورست
گر از شکر ایزد نہ بندی زباں
بدست^۶ آوری دولت جاوداں

در بیان صبر

ترا گر صبوری^۷ شود دستیار
بدست آوری دولت پائدار
صبوری بود کار پیغمبراں
نہ پیچند زیں روئے دین پروراں^۸
صبوری کشاید در کام جاں
کہ جز صابری نیست مفتاح^۹ آں
صبوری^{۱۰} بر آرد مرادِ دلّت
کہ از عالماں حل شود مشکلات

۱ شکر: یعنی نعمتوں کے بدلہ میں اللہ کی تعریف کرنا۔ حق شناس: حق کو پہچاننے والا۔ سپاس: شکر۔

۲ نفس: سانس۔ میار: نہلا۔

۳ فزاید: یعنی اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ ز شکر: شکر کی وجہ سے۔ فتح: کام یابی۔

۴ یکے از ہزار: ہزارواں حصہ۔

۵ ولے: لیکن۔ او: یعنی اللہ تعالیٰ۔

۶ بدست آوری: تو حاصل کر لے گا۔ جاوداں: بیشکی۔

۷ دین پرور: یعنی علما۔

۸ صابری: صبر۔ بر آرد: یعنی پوری کرے۔ عالماں: جاننے والے۔

صبری کلید در آرزو^۱ ست
صبری بہر حال اولیٰ بود
صبری ترا کامگاری^۲ دہد
صبری کنی گر ترا دیں بود^۳
کشائندہ کشور آرزو ست
کہ در ضمن آں^۴ چند معنی بود
ز رنج و بلا رستگاری دہد
کہ تعجیل کار شیاطین بود

درصفت راستی

دلا راستی^۵ گر کنی اختیار
نہ چچید سر از راستی ہوشمند^۶
دم^۷ از راستی گر زنی صبح وار
مزن دم بجز راستی زہنہار^۸
بہ از راستی در جہاں کار نیست
شود دولت ہمدم و بختیار
کہ از راستی نام گردد بلند
ز تاریکی جہل گیری کنار
کہ دارد فضیلت یمین بر بسیار
کہ در گلبن^۹ راستی خار نیست

در مذمت کذب

کسے را کہ ناراستی^{۱۰} گشت کار
کجا روزِ محشر شود رستگار

۱۔ آرزو: تمنا۔ کشور: ملک۔

۲۔ کامگاری: کامیابی۔ رستگاری: چھکارا، نجات۔

۳۔ گر ترا دیں بود: یعنی اگر تجھ میں دین داری ہے۔ تعجیل: جلد بازی۔ شیاطین: شیطان کی جمع۔

۴۔ آں: یعنی صبری۔ چند معنی: یعنی خوبیاں۔

۵۔ راستی: سچائی۔ ہمدم: ساتھی۔

۶۔ ہوشمند: ہوش والا۔

۷۔ دم: سانس۔ صبح وار: صبح کی طرح، جس کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ کنار: کنارہ۔

۸۔ زہنہار: ہرگز۔ یمین: داہنا، راست بھی کہتے ہیں۔ بسیار: باباں اور چپ بھی کہتے ہیں۔

۹۔ گلبن: شاخ۔ خار: کانٹا۔

۱۰۔ ناراستی: جھوٹ۔ محشر: قیامت۔ رستگار: چھکارا یعنی نجات حاصل کرنے والا۔

کسے را کہ گردد زبان دروغ ^۱ چراغ دلش را نباشد فروغ
 دروغ آدمی را کند شرمسار ^۲ دروغ آدمی را کند بے وقار
 ز کذاب ^۳ گیرد خرد مند عار کہ او را نیارد کسے در شمار
 دروغ اے برادر مگو زینہار کہ کاذب بود خوار ^۴ و بے اعتبار
 ز ناراستی نیست کار ^۵ بزود گم شود نام نیک اے پسر

درصنعت حق تعالیٰ

نگہ کن بدیں گنبد زر نگار کہ سقفش بود بے ستوں استوار
 سر پردہ ^۱ چرخ گردندہ ہیں درو شمعہائے فروزندہ ہیں
 یکے پاسبان ^۲ و یکے پادشاہ یکے داد خواہ و یکے باج خواہ
 یکے شادمان ^۳ و یکے درد مند یکے کامران و یکے مستمند
 یکے باج دار ^۴ و یکے تاج دار یکے سرفراز و یکے خاکسار
 یکے بر حصیر ^۵ و یکے بر سریر یکے در پلاس و یکے در حریر

^۱ دروغ: جھوٹ۔ فروغ: روشنی، ترقی، بڑھاوا۔

^۲ کذاب: جھوٹا۔ عار: ذلت۔ در شمار: کسی گفتی میں ہی نہیں یعنی ذلیل۔

^۳ خوار: ذلیل۔ ^۴ بتز: بدتر۔ کزو: کہ ازو۔ گم شود: یعنی مٹ جاتا ہے۔

^۵ صنعت: بنانا۔ گنبد: یعنی آسمان۔ زر نگار: سونے کا جڑاؤ۔ سقف: چھت۔ استوار: قائم۔

^۱ سر پردہ: خیمہ۔ چرخ: آسمان۔ گردندہ: گھومنے والا۔ شمع ہائے: موم بتیاں یعنی ستارے۔ فروزندہ: روشن کرنیوالا۔

^۲ پاسبان: دربان، چوکیدار۔ داد خواہ: فریادی۔ باج: ٹیکس۔

^۳ شادمان: خوش۔ کامران: کامیاب۔ مستمند: حاجتمند۔ ^۴ باج دار: ٹیکس دینے والا۔ سرفراز: سر بلند۔

^۵ حصیر: بوریا، چٹائی۔ سریر: تخت۔ پلاس: ٹاٹ۔ حریر: ریشمی کپڑا۔

یکے بے نوا^۱ و یکے مال دار
یکے در غنا^۲ و یکے در عنا
یکے تن درست و یکے ناتواں^۳
یکے در صواب^۴ و یکے در خطا
یکے نیک کردار^۵ و نیک اعتقاد
یکے نیک خلق^۶ و یکے تند خوئے
یکے در تنعم^۷ یکے در عذاب
یکے در جہانِ جلالت^۸ امیر
یکے در گلستان^۹ راحتِ مقیم
یکے را بروں رفت ز اندازہ مال
یکے چوں گل^{۱۰} از خرمی خندہ زن
یکے بستہ از بہر طاعت کمر^{۱۱}

یکے نامراد و یکے کام گار
یکے را بقا و یکے را فنا
یکے سال خورد و یکے نوجواں
یکے در دعا و یکے در دغا
یکے غرق در بحر فسق و فساد
یکے بردبار و یکے جنگ جوئے
یکے در مشقت یکے کام یاب
یکے در کمندِ حوادثِ اسیر
یکے با غم و رنج و محنت ندیم
یکے در غمِ نان^{۱۲} و خرچِ عیال
یکے را دل آزرده خاطر حزن
یکے در گنہ بردہ عمرے بسر

۱۔ بے نوا: بے سامان۔ کام گار: کامیاب۔

۲۔ غنا: مال داری۔ عنا: مشقت۔

۳۔ ناتواں: بے طاقت۔ سال خورد: بوڑھا۔

۴۔ صواب: درست۔ دغا: فریب، مکر، دھوکہ۔

۵۔ کردار: کام۔ غرق: ڈوبا ہوا۔ بحر: سمندر۔

۶۔ خلق: عادت۔ تند خوئے: سخت، بد مزاج۔ بردبار: نرم مزاج۔ جنگ جو: لڑاکو۔

۷۔ تنعم: نعمتیں حاصل کرنا۔

۸۔ جلالت: بڑائی۔ امیر: حاکم۔

۹۔ گلستان: باغ۔

۱۰۔ گل: پھول۔ خرمی: خوشی۔ خندہ: ہنسی۔ خاطر: طبیعت۔ حزن: رنجیدہ۔

۱۱۔ کمر بستہ: تیار ہونا۔

۱۲۔ نان: روٹی۔ عیال: بال بچے۔

یکے رات شب و روز مصحف ^۱ بدست
یکے بر در شرع مسمار ^۲ وار
یکے مقبل ^۳ و عالم و ہوشیار
یکے غازی ^۴ و چابک و پہلواں
یکے کاتب ^۵ اہل دیانت ضمیر
یکے خفتہ در کنج مے خانہ مست
یکے در رہ کفر زناں دار
یکے مدبر و جاہل و شرمسار
یکے بزدل و سست و ترسندہ جاں
یکے دزدِ باطن کہ نامش دبیر

در منع امید از مخلوقات

ازیں پس مکن تکیہ ^۱ بر روزگار
مکن تکیہ بر لشکر ^۲ بے عدد
مکن تکیہ بر ملک و جاہ و حشم ^۳
مکن بد ^۴ کہ بد بینی از یار نیک
بسا ^۵ پادشاہان کشور نشان
کہ ناگہ زجانت برآرد دمار
کہ شاید ز نصرت نیابی مدد
کہ پیش از تو بود دست و بعد از تو ہم
نمی روید از تخم بد بار نیک
بسا پہلوانان کشور ستاں

۱ مصحف: قرآن۔ کنج: گوشہ۔ مے خانہ: شراب خانہ۔

۲ مسمار: کیل۔ زناں: جنیو، جو کافروں کی علامت ہے۔

۳ مقبل: نصیبہ والا۔ مدبر: بدنصیب۔

۴ غازی: جہاد کرنے والا۔ چابک: چست۔ ترسندہ: ڈرپوک۔

۵ کاتب: لکھنے والا۔ ضمیر: دل۔ دزد: چور۔ دبیر: منشی۔

۱ تکیہ: بھروسہ۔ ناگہ: اچانک۔ دمار: ہلاکت۔

۲ لشکر بے عدد: ان گنت فوج۔ نصرت: مدد۔

۳ حشم: نوکر چاکر۔ کہ پیش از تو اٹخ: یعنی تجھ سے پہلے بھی تھے اور تیرے بعد میں بھی رہیں گے۔

۴ مکن بد: یعنی دوسرے کے ساتھ برائی نہ کر۔ تخم بد: ککناج۔ بار: پھل۔

۵ بسا: بہت سے۔ کشور: ملک۔ ستاں: لینے والا۔

بسا تند گردان^۱ لشکر شکن
بسا شیر مردان شمشیر زن
بسا ماہ^۲ رویان شمشاد قد
بسا ماہ رویان نوحاستہ^۳
بسا نام دار و بسا کام گار
بسا سرو قد^۴ و بسا گل عذار
کہ کردند^۵ پیراہن عمر چاک
چناں خرمن^۶ عمر شاں شد بہاد
منہ دل بریں منزل^۷ جاں ستاں
منہ دل بریں کاخ^۸ خرم ہوا
ثبات^۹ ندارد جہاں اے پسر
مکن تکیہ بر ملک^{۱۰} و فرماں دہی
منہ دل بریں دیر^{۱۱} نا پائداد

۱۔ گردان: پہلوان۔ لشکر شکن: لشکر کو ہرا دینے والا۔ شیر مرد: بہادر۔ شمشیر زن: تلوار چلانے والا۔

۲۔ ماہ رو: چاند جیسے چہرے والا۔ شمشاد: ایک درخت کا نام، جو سرو کی طرح ہوتا ہے۔ خورشید خد: سورج جیسے رخسار والے۔

۳۔ نوحاستہ: نوعمر۔ نوعروس: جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو۔

۴۔ سرو قد: سرو جیسے قد والے۔ گل عذار: پھول جیسے رخسار والے۔

۵۔ کہ کردند: یہ جواب آگے آئے گا۔ پیراہن: لباس۔ کشیدند: یعنی مگر خاک میں مل گئے۔

۶۔ خرمن: کھلیان۔ بہاد شدن: بہاد ہونا،

۷۔ منزل: مکان۔ جاں ستاں: جان لینے والا۔ شاداں: خوش۔

۸۔ کاخ: محل۔ خرم: تازہ۔

۹۔ ثبات: پائیداری۔ بسر: انجام۔

۱۰۔ ملک: حکومت۔ فرماں: یعنی موت کا حکم۔

۱۱۔ دیر: مندر یعنی دنیا۔ سعدی: یعنی شیخ مصلح الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمیں: یہی، یہ۔

مکتبہ الرشیدی

طبع شدہ

		رنگین مجلد	
علم النحو	علم الصرف (اولین، آخرین)	(جلد ۲)	تفسیر عثمانی
جمال القرآن	عربی صفوۃ المصادر	(جلد)	خطبات الاحکام لجمععات العام
تسهيل المبتدی	جوامع الکلم مع چهل ادعیہ منونہ	(جلد)	حصن حصین
تعلیم العقائد	عربی کا معلم (اول، دوم، سوم)	(جلد)	الحزب الاعظم (مینی کی ترتیب پر مکتل)
سیر الصحابیات	نام حق	(جلد)	الحزب الاعظم (نفتی کی ترتیب پر مکتل)
پندنامہ	کریمیا	(جلد)	لسان القرآن (اول، دوم، سوم)
مجلد / کارڈ کور		(جلد)	خصائل نبوی شرح شمائل ترمذی
مختب احادیث	فضائل اعمال	(جلد)	تعلیم الاسلام (مکتل)
اکرام مسلم	مفتاح لسان القرآن (اول، دوم، سوم)	(جلد)	بہشتی زیور (تین حصہ)
زیر طبع		رنگین کارڈ کور	
معلم الحجاج	عربی کا معلم (چہارم)	آداب المعاشرت	حیات المسلمین
نحو میر	صرف میر	زاد السعید	تعلیم الدین
	تیسیر الابواب	روضۃ الادب	جزاء الاعمال
		فضائل حج	الحجامة (چھناگانا) (جدید ایڈیشن)
		معین الفلسفة	الحزب الاعظم (مینی) (مینی کی ترتیب پر)
		مبادئ الفلسفة	الحزب الاعظم (مینی) (نفتی کی ترتیب پر)
		معین الأصول	مفتاح لسان القرآن (اول، دوم، سوم)
		تیسیر المنطق	عربی زبان کا آسان قاعدہ
		فوائد مکية	فارسی زبان کا آسان قاعدہ
		بہشتی گوہر	تاریخ اسلام

مكتبة البشائر المطبوع

تعريب علم الصيغه (مجلد)
نور الإيضاح (مجلد)

ملونة كرتون مقوي

السراجي	شرح عقود رسم المفتي
الفوز الكبير	متن العقيدة الطحاوية
تلخيص المفتاح	هداية النحو (الخلاصة والتمارين)
دروس البلاغة	زاد الطالبين
الكافية	عوامل النحو (النحو)
تعليم المتعلم	هداية النحو
مبادئ الأصول	إيساغوجي
المقرات	شرح مائة عامل
	متن الكافي مع مختصر الشافي
	خير الأصول في حديث الرسول

ستطع قريباً بعون الله تعالى

ملونة مجلدة / كرتون مقوي

الجامع للترمذي	الموطأ للإمام مالك
ديوان المتنبي	ديوان الحماسة
المعلقات السبع	التوضيح والتلويح
المقامات الحريرية	شرح الجامي

ملونة مجلدة

(٧ مجلدات)	الصحيح لمسلم
(مجلدين)	الموطأ للإمام محمد
(٨ مجلدات)	الهداية
(٤ مجلدات)	مشكاة المصابيح
(مجلد)	التيبان في علوم القرآن
(مجلد)	تفسير البيضاوي
(مجلد)	شرح العقائد
(مجلد)	تيسير مصطلح الحديث
(٣ مجلدات)	تفسير الجلالين
(مجلد)	المسند للإمام الأعظم
(مجلدين)	مختصر المعاني
(مجلد)	الحسامي
(مجلد)	الهدية السعيدية
(مجلدين)	نور الأنوار (مجلدين)
(مجلد)	القطبي
(٣ مجلدات)	كنز الدقائق (٣ مجلدات)
(مجلد)	أصول الشاشي
(مجلد)	نفحة العرب
(مجلد)	شرح التهذيب
(مجلد)	مختصر القدوري

Book in English

Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1, 2, 3)
Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)
Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)
Al-Hizbul Azam (Large) (H. Binding)
Al-Hizbul Azam (Small) (Card Cover)
Secret of Salah

Other Languages

Riyad Us Saliheen (Spanish)(H. Binding)
Fazail-e-Aamal (German)

To be published Shortly Insha Allah

Al-Hizbul Azam (French) (Coloured)